



سینٹ البانز، ہارپینڈن اور مضافات میں

پلیئنگ آؤٹ (باہر کھیلنا) ایک کمیونٹی پروجیکٹ ہے جس میں رہائشی باہر کھیلنے اور کمیونٹی کے درمیان روابط استوار کرنے کے لیے سال میں 8 مرتبہ اپنی اسڑیٹ کو جاری ٹریفک کے لیے بند کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں۔



- اس کی مدد سے پڑوسی آپس میں ملاقاتیں کر سکتے ہیں اور معاونتی نیٹ ورکس بنا سکتے ہیں۔
- اس میں بچوں کو تازہ ہوا میں باہر نکلنے اور ورزش کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔

مزید جانیں!

www.sustainablestalbens.org/playingout
playingout@sustainablestalbens.org



رجسٹر شدہ چیریٹی نمبر 1173118



آپ کے سوالات کے جوابات

کون باہر کھیلے گا؟

ڈسٹرکٹ سینٹ البانز کی کسی بھی اسٹریٹ کے رہائشی باہر کھیلنے کے لیے اپنے روڈ بند کرانے کی درخواست دے سکتے ہیں (ماسوائے بس روٹس)۔ پہلے تمام پڑوسیوں کی مشاورت لازمی ہو گی۔ باہر کھیلنے کے اوقات صرف اسی اسٹریٹ کے رہائشیوں کے لیے ہوں گے، نہ کہ عام لوگوں کے لیے۔ باہر کھیلنا صرف بچوں تک ہی محدود نہیں ہو گا! اسٹریٹ کے تمام رہائشیوں کا خیرمقدم کیا جاتا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پڑوسیوں کو جانیں۔

اگر مجھے کہیں جانا ہو، تو کیا ہو گا؟

اسٹریٹ کے رضاکار سڑکوں کی بندش کے مقامات پر موجود ہوں گے، تاکہ رہائشی اور ان کے مہمان پھر بھی آتے جاتے رہیں۔ سڑک صرف جاری ٹریفک کے لیے بند ہو گی۔ اگر آپ کو کسی بند علاقے سے گاڑی کے ذریعے باہر نکلنا ہو، تو براہ کرم رضاکار کو بتائیں۔

باہر نکل کر کھیلنا ایک اسٹریٹ پارٹی سے کیسے مختلف ہے؟

اس کے دورانیے مختصر ہوتے ہیں اور بند علاقے کے رہائشی اپنی گاڑی بھی استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ زور بچوں کو آزادانہ طور پر کھیلنے اور کمیونٹی میں روابط بڑھانے کا موقع فراہم کرنے پر ہوتا ہے جبکہ اس میں کوئی منظم سرگرمی یا کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوتیں (ہاں مگر کوئی بھی چائے اور کیک سے انکار نہیں کرتا!)

باہر کھیلنے کے دورانیے میں بچوں کی سرپرستی کون کرتا ہے؟

والدین ہر وقت اپنے بچوں کے خود ذمہ دار ہوں گے۔

میں کیسے شامل ہو سکتا/سکتی ہوں؟

اگر آپ کی اسٹریٹ میں باہر کھیلنے کے دورانیوں کی منصوبہ بندی ہو، تو آپ شہریوں کی گاڑیوں کو منتظم کرنے کے لیے کیوں نہ ایک رضاکار بن جائیں؟ اگر آپ کی اسٹریٹ میں باہر جا کر کھیلنے کی منصوبہ بندی نہ کی گئی ہو، تو اپنے پڑوسیوں سے بات کریں اور معلوم کریں کہ آیا وہ بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے www.sustainablestalbans.org/playingout ملاحظہ کریں۔

This leaflet is in Urdu.

[Arabic] هذه النشرة متاحة باللغة العربية

Other languages এই লিফলেটটা সিলেটী ভাষাত পাওয়া যাইবো [Bengali (Sylheti)]

available.

Ta ulotka jest dostępna w języku polskim [Polish]